



## مدعا علیہ کے لیے اہم معلومات

- 1- آپ کو ایک ایمرجنسی تحفظ آرڈر (ای پی او) پیش کیا گیا ہے -
  - 2- (ای پی او) پر سطر نمبر ۷ آپ کو بتاتی ہے کہ کہاں اور کب عدالت میں ای پی او کی نظرثانی پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے -
  - 3- اگر آپ نظرثانی پیشی (تاریخ ای پی او کی سطر نمبر ۷ پر درج ہے) میں وکیل کی خدمات مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لیگل ایڈ البرٹا سے صوبے کے کسی بھی حصے سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ۱-۸۶۶-۸۴۵-۳۴۲۵۔ اشد ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ (ای پی او) پر مدعا علیہ ہیں۔
  - 4- اگر آپ خود کسی وکیل کی معاونت کے بغیر پیش ہونا چاہتے ہیں تو آپ \*
    ۱. تحریری ریکارڈ کی کاپی (تحریری گواہی جب (ای پی او) عطا کی گئی تھی) حاصل کر سکتے ہیں۔
    - \* ایڈمنٹن اور مضافات: کوین بینچ کے کلرک کو اس نمبر پر رابطہ کریں -۱۱۳۷-۶۴۳-۷۸۰
    - \* کیلگری اور مضافات : اس نمبر رابطہ کریں-۵۶۵۳-۲۹۷-۴۰۳
  - \*-دیگر علاقاجات- البرٹا عدالت کی ویب سائٹ [www.albertacourts.ab.ca](http://www.albertacourts.ab.ca) پر جائیں پھر "Court of Queens Bench" کو چننے پھر 'locations and sittings' کو چننے تاکہ آپ کو اس "Court of Queens Bench" کے محل وقوع اور اس سے رابطہ کرنے کی معلومات مل سکے جہاں آپ کی نظرثانی پیشی کی جائے گی۔ یا ۳۱۰-۰۰۰۰۰ پر کال کریں۔
  - ب۔ ایک حلف نامہ تیار کریں جس میں آپ کی کہانی بیان ہو۔
  - پ۔ حلف نامہ کو اس عدالت میں دائر کریں جہاں کہ ای پی او کی نظرثانی پیشی ہو گی۔
  - ت۔ کسی غیر جانبدار فریق یا پروسیس سرور کے ذریعے مدعی کو حلف نامہ کی کاپی پیشی سے کم از کم چوبیس گھنٹے پہلے پیش کریں۔
  - ث۔ نظرثانی پیشی کے دن عدالت میں حاضر ہوں۔
- 5- آپ پر عدالت میں حاضر ہونا لازم ہے۔ نظرثانی پیشی کی تاریخ کو نظر انداز کرنا اور (ای پی او) کی تاریخ انتہا پر انحصار کرنا کافی نہیں ہے۔ جج آپ کی غیر موجودگی میں فیصلہ کر دے گا۔

\*اس مفت سروس میں (ای پی او) اور قانونی کارروائی، (ای پی او) سے متعلق قانونی مشورے، حلف نامہ کی تیاری اور عدالت میں پہلی پیشی (ای پی او کی سطر نمبر ۷) کی نمائندگی کے باے میں معلومات شامل ہیں۔ اس میں زبانی سماعت اور دوسرے قانونی معاملات کے متعلق صلاح مشورے شامل نہیں ہیں۔

\*ترمیم شدہ اپریل ۲۰۱۶